

برائے فوری اجراء

برامپٹن کا انوویشن ڈسٹرکٹ معاشی بحالی کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرے گا

برامپٹن، آن (4 ستمبر 2020) - سٹی آف برامپٹن اسٹارٹ اپ کی ایک متحرک کمیونٹی کو فروغ دینے، مقامی ٹیلنٹ کو بڑھانے اور انٹرپرائیونرز کی معاونت کے لیے ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کے دل میں ایک انوویشن ڈسٹرکٹ تعمیر کر رہا ہے۔

اگلے بدھ کو، برامپٹن کے انوویشن ڈسٹرکٹ میں نئے **ریٹرسن وینچر زون** کا باضابطہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ نیا انکیوبیٹر برامپٹن کے اندر نئے کاروباروں کو بنانے اور بڑھانے میں مدد دینے، اعلیٰ مہارتوں کی حامل ملازمتیں پیدا کرنے اور قابل لوگوں کا ایک نیا سلسلہ بنانے کے لیے وقف ہے۔

انوویشن ڈسٹرکٹ، سٹی کے کووڈ-19 **اکنامک ریکوری اسٹریٹیجی** میں ایک کلیدی حکمت عملی تھا اور آنے والے مہینوں اور سالوں میں اس کی بڑھوتری کا سلسلہ جاری رہے گا۔

انوویشن ڈسٹرکٹ کے شراکت دار

ریٹرسن وینچر زون کے علاوہ، کئی انٹرپرائیونرز، کاروباری انکیوبیشن اور فروغ کے اداروں نے برامپٹن کے انوویشن ڈسٹرکٹ میں شمولیت اختیار کر لی ہے، بشمول ذیل:

- **برامپٹن انٹرپرائیونرز سنٹر (BEC)** کی مشترکہ کام کی جگہ اور چھوٹے کاروباروں کے لیے وسائل - 4500 مربع فٹ کے کھلے اسٹور فرنٹ میں واقع، مشترکہ کام کرنے کی یہ جگہ تخلیقی قوت اور پیداواریت کو ہوا دینے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ BEC مقامی انٹرپرائیونرز اور جدت کاروں کے لیے کثرت سے سیمینارز کا انعقاد کرتا ہے اور کاروباری منصوبوں کی نظرثانی اور مشیروں کے ساتھ مشاورت کی مفت پیشکش کرتا ہے۔
 - **کیٹالسٹ سائبر ایکسپریٹس (راجرز سائبر سیکورٹی کیٹالسٹ اور ریٹرسن DMZ کی قیادت میں)** - یہ ایکسپریٹس اسٹارٹ اپس اور اسکیل اپس کے لیے کینیڈا کا پہلا سائبر سیکورٹی ایکسپریٹس ہے۔ یہ ایکسپریٹس راجرز سائبر سیکورٹی کیٹالسٹ کے دیگر بڑے اقدامات (بشمول کینیڈا کی پہلی سائبر رینج، سائبر سیکورٹی کی تربیت اور تحقیق و ترقی) کے ساتھ مل کر برامپٹن کو کینیڈا میں سائبر سیکورٹی کے مرکز کے طور پر سامنے لا رہا ہے۔
 - **ریسرچ انوویشن کمرشلائزیشن سنٹر (RIC)** سنٹر - کاروباروں کی انکیوبیشن اور ایکسپریٹس کی ایک خصوصی جگہ، RIC سنٹر اسٹارٹ اپس کو بڑھانے اور اپنے کاروباروں کو اگلے درجے پر لے کر جانے میں مدد دیتا ہے۔ RIC سنٹر ٹیکنالوجی کی کمپنیوں کے لیے ایک متحرک کیٹالسٹ ہے اور انٹرنیٹ آف تھنگز، کلین ٹیک اور ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں کام کرنے والی کمپنیوں کے لیے خصوصی وسائل کا حامل ہے۔
 - **برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ اور ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن بزنس امپروومنٹ ایریا (BIA)** بھی انوویشن ڈسٹرکٹ کی تعمیر میں کلیدی شراکت دار ہیں۔
- اس سال کے اواخر میں مزید شراکت داروں کی شمولیت کی توقع ہے۔

قابل لوگوں کی تیاری

انوویشن ڈسٹرکٹ گریٹر ٹورانٹو ایریا (GTA) میں قابل لوگوں کی مہارتوں کو بڑھانے یا نئی مہارتیں پیدا کرنے کے لیے تعلیم اور تربیت کے مواقع کی بھی پیشکش کرتا ہے۔ ریٹرسن یونیورسٹی چینج اسکول آف کانٹینیوننگ ایجوکیشن اور راجرز سائبر سیکورٹی کیٹالسٹ سے لے کر شیرپٹن کالج اور الگوما یونیورسٹی تک، انوویشن ڈسٹرکٹ قابل لوگوں کی تیاری کے لیے ایک ابھرتا ہوا مرکز ہے۔

معاشی بحالی کی حکمت عملی

13 مئی کو، برامپٹن سٹی کونسل نے مقامی معیشت کو دوبارہ شروع کرنے کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے **برامپٹن کی معاشی بحالی کی حکمت عملی** کو منظور کیا۔ اس حکمت عملی کا مقصد اپنے درج ذیل چار ستونوں کے مطابق فوری اور طویل مدتی اقدامات اٹھا کر برامپٹن کی معیشت میں لچک اور مسابقتی سبقت لانا ہے: جدت، ٹیکنالوجی اور انٹرپرائیوٹرشپ، سرمایہ کار، انفراسٹرکچر اور فنون، ثقافت اور سیاحت۔

اقتباسات

"برامپٹن اپنے شہر میں ایک مضبوط انوویشن ڈسٹرکٹ تعمیر کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور کینیڈا کے انوویشن کوریڈور کے لیے ہماری جگہ ہمیں نئی سرمایہ کاری کے لیے بہترین مقام پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ چونکہ ہمارا انوویشن ڈسٹرکٹ بڑھ رہا ہے، ہم کاروباروں کو ان کے سفر کے ہر مرحلے پر معاونت فراہم کرنے کے قابل ہوں گے۔"

– پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ہمارے انوویشن ڈسٹرکٹ کی مسلسل بڑھوتی ہماری معاشی بحالی کی حکمت عملی کے لیے کلیدی عمل ہے اور رینرس وینچر زون ہمارے بڑھتے ہوئے ڈسٹرکٹ میں ایک اہم اضافہ ہے۔ جبکہ ہم اپنے شہر کو کووڈ-19 کی عالمی وباء سے آگے بڑھا رہے ہیں، ہم اپنے پُر جدت ماحول کو بہتر بنانے اور ایک بے مثال انوویشن ڈسٹرکٹ بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔"

– پال ویسیٹی، ریجنل کونسلر وارٹنز 1 اور 5؛ وائس چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر؛ اور کو چیئر، میئرز کووڈ-19 اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس، سٹی آف برامپٹن

"ہم اس عالمی وباء سے باہر آ رہے ہیں اور اپنی مقامی معیشت کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں، ہم اپنے بڑھتے ہوئے انوویشن ڈسٹرکٹ میں انٹرپرائیوٹرز اور ممکنہ سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایسی کئی وجوہات ہیں، جن کی بناء پر برامپٹن کاروبار قائم کرنے کے لیے ایک مثالی جگہ ہے اور ہم اپنے ساتھ شامل کرنے اور اس تحریک کا حصہ بننے کے لیے اہم فریقین کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے پرامید ہیں۔"

– مائیکل بلیسیچی، وارٹنز 2 اور 6، چیئر، میئرز کووڈ-19 اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس، سٹی آف برامپٹن

"کینیڈا کے انوویشن کوریڈور کے وسط میں موجود ہماری مرکزی جگہ کے ساتھ، برامپٹن جدت میں عالمی رہنماء بننے کے لیے اپنے پُر جدت ماحول کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ہمارا عملہ شراکت داریاں پیدا کرنے اور برامپٹن اپنی انٹرپرائیوٹرز اور کاروباروں کے لیے ایک مثالی جگہ بنانے کے لیے ضروری حالات پیدا کرنے کے لیے وقف ہے۔"

– ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتی کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca